

سوال

میں اپنے خاوند کی معاشی حالت سدھارنے کے لیے ملازمت کرتی ہوں، کیونکہ خاوند کی تنخواہ ہماری بنیادی ضروریات اور ہماری اولاد کی تعلیم کے اخراجات پوری نہیں کر سکتی، میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ لوگوں سے قرض حاصل کیا، اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مال کے ساتھ ہمارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے، میں ایک روز قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں مسلمان کی کیا سزا ہے کے موضوع پر درس میں شریک تھی، اسی طرح اس درس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا اور درس دینے والے شخص نے اس کی ادائیگی میں ممد و معاون ایک دعا بھی بتائی لیکن میں اسے لکھ نہیں سکی۔

آپ سے گزارش ہے کہ قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی سزا بتائیں، اور قرض کی ادائیگی کے لیے ممد و معاون دعا بھی بتائیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

فقہاء کرام نے قرض کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ: " یہ ایسا حق ہے جو کسی کے ذمہ ہوتا ہے "

دیکھیں: الموسوعة الفقهية (21 / 102) .

اور دین کے لغوی معنی انقیاد اور الذل کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور شرعی و اصطلاحی اور لغوی معنی کے درمیان ربط ظاہر ہے، کہ مقروض شخص اسیر اور قیدی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" یقیناً تمہارا ساتھی اپنے قرض کے بدلے قیدی ہے "

سنن ابو داؤد حدیث نمبر (3341) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابو داؤد میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

دوم:

شریعت اسلامیہ میں قرض کے معاملہ میں بہت سختی آئی ہے، اور اس سے بچنے کا کہا گیا ہے، اور اس سے حتی الامکان احتراز کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے:

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں درج ذیل دعا پڑھا کرتے تھے:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ"

اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں گناہ سے اور قرض سے "

تو ایک کہنے والے نے عرض کیا:

آپ قرض سے اتنی کثرت کے ساتھ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"بلا شبہ جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے (یعنی جب قرض لیتا ہے) تو بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (832) صحیح مسلم حدیث نمبر (589)

اور امام نسائی رحمہ اللہ نے محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں:

"ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پر رکھی اور فرمانے لگے:

سبحان اللہ! کتنی سختی اور تشدید نازل کی گئی ہے؟

تو ہم خاموش رہے اور سہم گئے، اور جب دوسرے دن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی سی سختی اور تشدید تھی؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر قتل کر دیا جائے، اور اس پر قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو گا، حتیٰ کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے"

سنن نسائی حدیث نمبر (4605) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سنن نسائی حدیث نمبر (4367) میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی جس کے ذمہ دو دینار قرض تھے، حتیٰ کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قرض ادا کرنے کی حامی بھری تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، اور جب دوسرے دن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے "

مسند احمد (629 / 3) امام نووی رحمہ اللہ نے الخلاصة (931 / 2) میں اور ابن مفلح نے الآداب الشرعية (104 / 1) میں نقل کیا ہے، اور مسند احمد کے محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فتح الباری میں کہتے ہیں:

" اور اس حدیث میں قرض کے معاملہ کی سختی کا شعور ملتا ہے، اور یہ کہ بغیر ضرورت قرض حاصل نہیں کرنا چاہیے " انتہی۔

دیکھیں: فتح الباری (4 / 547)۔

اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ تین اشیاء تکبر، خیانت، اور قرض سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا "

سنن ترمذی حدیث نمبر (1572) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" مؤمن کی جان اس کے قرض کی بنا پر معلق رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے "

سنن ترمذی حدیث نمبر (1078)۔

مبارکپوری رحمہ اللہ " تحفة الاحوذی " میں لکھتے ہیں:

" قولہ: (مؤمن کی جان معلق رہتی ہے) سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یعنی وہ اپنی اچھی اور کریم جگہ سے محبوس

رہتا ہے۔

اور عراقی کا کہنا ہے: یعنی اس کا معاملہ موقوف رہتا ہے، نہ تو اس کی نجات اور نہ ہی اس کی ہلاکت کا حکم ہوتا ہے، حتیٰ کہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے یا نہیں " انتہی۔

دیکھیں: تحفة الاحوذی (4 / 164)۔

اور بہت سے سلف حضرات سے بھی قرض کے بچنے کی تحذیر آئی ہے:

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے:

" تم قرض سے بچ کر رہو، کیونکہ اس کی ابتداء غم ہے، اور آخر لڑائی ہے "

موطا امام مالك (2 / 770)۔

اور مصنف عبد الرزاق میں ہے:

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا:

(اے حمران! اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور ڈر اختیار کرو، اور مقروض ہو کر فوت نہ ہونا، کیونکہ تیری نیکیاں لے لی جائیں گی، اور وہاں نہ تو کوئی دینار ہوگا اور نہ ہی کوئی درہم "

دیکھیں: مصنف عبد الرزاق (3 / 57)۔

سوم:

قرض کے متعلق اتنی شدید سختی اس لیے آئی ہے کہ اس کی بنا پر معاشرے میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی اور معاشرے کے فرد میں بھی کئی خراب چیزیں اور فساد پیدا ہوتا ہے۔

انفرادی پیدا ہونے والی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمہ اللہ " الجامع لاحکام القرآن " میں کہتے ہیں:

" ہمارے علماء کا کہنا ہے: اس میں کچھ تذلیل سی ہے جس میں ہر وقت دل اور خیالات مشغول رہتا ہے، اور اس کی ادائیگی کا ہر وقت غم رہتا ہے، اور قرض خواہ سے ملتے وقت مقروض حقیر اور تذلیل محسوس کرتا ہے، اور اس کا وقت آنے تک تاخیر کی خواہش رکھتا ہے، اور بعض اوقات تو ادائیگی کا وعدہ کرتا ہے لیکن وعدہ خلافی کر جاتا ہے، یا پھر قرض خواہ کے ساتھ بات چیت کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے، یا قسم اٹھا کر قسم کا پاس نہیں کرتا،

اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ.

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ادائیگی کیے بغیر ہی فوت ہو جائے تو وہ اس قرض کے عوض میں رہن رہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" مؤمن کی جان اس کی قبر میں قرض کے بدلے گروی اور رہن رکھی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے "

سنن ترمذی حدیث نمبر (1078).

یہ سب اسباب قرض کی قباحت ہیں جس سے اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے کمال میں کمی ہو جاتی ہے " انتہی.

دیکھیں: الجامع لاحکام القرآن (3 / 417).

اور معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کے متعلق متخصص حضرات نے بیان کیا ہے کہ اس میں کچھ ایسی خرابیاں بھی ہیں جو ایک مثالی اقتصادی حالت کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں:

1 - جلدی بڑھوتی کی خواہش، یا وقتی افسوس کی زیادتی.

2 - ذمہ داری کی روح، اور اپنی ذات پر اعتماد میں کمزوری پیدا ہونا.

3 - مال کی غیر صحیح تقسیم.

ان خرابیوں کو تفصیلاً سمجھنے کے لیے آپ فضیلۃ الشیخ سامی السویلیم کا " موقف الشریعة الاسلامیة من الدین " کے عنوان سے مقالہ کا مطالعہ کریں (6 - 11).

چہارم:

جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے اس پر چلتے ہوئے علماء کرام نے قرض کے جواز کے لیے تین شرطیں لگائی ہیں:

1 - مقروض شخص ادائیگی کا عزم رکھتا ہو.

2 - اسے علم ہو، یا پھر اس کے غالب گمان ہو کہ وہ قرض کی ادائیگی کی قدرت رکھتا ہے.

3 - وہ کسی مشروع اور جائز امر میں قرض لے.

ابن عبد البر رحمہ اللہ " التمهيد " میں لکھتے ہیں:

" وہ قرض جس کی بنا پر مقروض شخص کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائیگا واللہ اعلم وہ قرض ہے جس کی ادائیگی نہ کی گئی ہو اور نہ ہی اس کی ادائیگی کی وصیت کی ہو، یا پھر ادائیگی کی استطاعت ہونے کے باوجود ادا نہ کیا گیا ہو، یا اس نے بغیر حق کے قرض لیا ہو، یا فضول خرچی کے لیے لیا اور اس کی ادائیگی نہ کر سکا۔

لیکن جس نے کسی واجب کردہ حق یعنی فقر و فاقہ یا گزران زندگی کے لیے قرض حاصل کیا اور ادا کیے بغیر ہی فوت ہوگا، اور نہ ہی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ان شاء اللہ جنت میں جانے سے نہیں روکے گا " انتہی۔

دیکھیں: التمهيد (23 / 238)۔

پنجم:

میری سوال کرنے والی عزیز بہن جب آپ اس قرض کے معاملہ میں مبتلا ہوچکی ہیں تا کہ اپنے خاوند اور خاندان کی زندگی گزارنے کی مشکلات حل کرنے میں ممد و معاونت کر سکیں، تو اس حسن معاشرت کی بنا پر آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائےگا، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔

آپ یہ علم میں رکھیں کہ اس قرض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائےگا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جس شخص نے لوگوں سے مال لیا اور وہ اس کی ادائیگی کرنا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کرتا ہے، اور جس نے اسے ضائع کرنے کے لیے لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع کردیتا ہے "

صحیح بخاری حدیث نمبر (2387)۔

اس پر آپ قرض کی ادائیگی کی حرص اور حقیقی کوشش سے مدد لیں اور اللہ تعالیٰ پرتوکل اور بھروسہ رکھیں، اور دعا کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی آسانی پیدا فرمائے جس سے آپ اس قرض کی ادائیگی کر سکیں۔

سنت نبویہ میں کئی ایک دعائیں ہیں جو بالخصوص قرض کی ادائیگی میں ممد و معاونت کے لیے وارد ہیں، جو درج ذیل ہیں:

1 - سہیل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو صالح ہمیں حکم دیا کرتے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ کلمات پڑھا کرے:

"اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ"

اے اللہ آسمان و زمین کے پروردگار، اور عرش عظیم کے مالک، ہمارے اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پہاڑنے والے، اور توراہ اور انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، اے اللہ تو ہی اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور ہی آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے تیرے ورے کوئی چیز نہیں، ہم سے قرض ادا کر دے، اور ہمیں فقر و فاقہ سے غنی کر دے "

وہ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کرتے تھے۔

صحیح مسلم حدیث نمبر (2713)۔

2 - علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک غلام آیا جس نے اپنے مالک سے مکاتبت کر رکھی تھی، اور وہ کہنے لگا: میں اپنی کتابت کی ادائیگی سے عاجز ہوں، اس لیے آپ میری مدد اور میرا تعاون کریں۔

تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، اگر تیرا قرض جبل صیر جتنا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کر دیگا؟! وہ کہنے لگے: یہ کلمات کہا کرو:

"اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ"

اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام کردہ سے کافی ہو جا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے علاوہ سب سے غنی کر دے "

سنن ترمذی حدیث نمبر (2563) امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ترمذی میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

کتابت یہ ہے کہ غلام اپنے آقا کے ساتھ آزادی کا سودا کرے کہ میں اتنا مال دے کر آزاد ہو جاؤنگا۔

اور جبل صیر طئی قبیلے کا ایک پہاڑ ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ صبر پہاڑ ہے۔

3 - ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں داخل

ہوئے تو ایک انصاری شخص جسے ابو امامہ کہا جاتا تھا کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" اے ابو امامہ کیا بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نماز کے وقت کے بغیر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو؟!

تو اس نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پریشانی لاحق ہے، اور قرض مجھ پر ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لگے:

کیا میں تجھے چند ایسے کلمات نہ سکھاؤں جب تم یہ کلمات پڑھو تو اللہ تعالیٰ تیرا غم دور کر دیگا، اور تیرا قرض بھی ؟

راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں!

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لگے: جب صبح کرو اور جب شام کرو تو یہ کلمات پڑھا کرو:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ "

اے اللہ میں فکر و غم اور پریشانی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں عاجز ہوجانے، اور سستی و کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں بزدلی اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں قرض کے چڑھ جانے اور آدمیوں کے غلبہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں "

وہ کہتے ہیں: میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا غم اور فکر و پریشانی دور کر دی، اور میرا قرض بھی اتار دیا "

سنن ابو داؤد حدیث نمبر (1555) اس کی سند میں غسان بن عوف ہے جس کے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: غیر حجتہ ہے، اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داؤد میں اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن مذکورہ دعاء جو کہ یہ ہے:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ "

ابو اس ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ کے علاوہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے . واللہ تعالیٰ اعلم.

واللہ اعلم .